



جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرے اور وہ یہ جانتا بھی ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے

سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرے اور وہ یہ جانتا بھی ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے“
[صحیح] [متفق علیہ]

حدیث میں اس کام کی ممانعت کا بیان ہے جسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے یعنی اپنے حقیقی باپ کی بجائے کسی اور کو ساتھ اپنا نسب جوڑ دینا انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اصل خاندان یعنی اپنے باپ، داد اور پردادا وغیرہ کی طرف نسبت کرے اور اس کو لے کر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حقیقی باپ کی بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے حالانکہ اسے یہ بخوبی علم ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے مثلاً اس کا باپ فلاں قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ دیکھے کہ اس قبیلہ میں دوسرے قبیلہ کے مقابلے میں یہ نقص پایا جاتا ہے چنانچہ اس کی وجہ سے وہ دوسرے قبیلہ کی طرف اپنی نسبت کر لے جو حسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے تاکہ اپنے آپ سے اپنے قبیلہ کے عیب کو دور کر سکے ایسا کرنے والا شخص کے متعلق وعید ہے کہ وہ جنت سے محروم رہے گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6376>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

